

42507- حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا

سوال

میں ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے قبل عمرہ کیا تو مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ تم پر حج فرض ہو گیا ہے، حالانکہ میں نے دو برس قبل حج کر لیا تھا، کیا اس کی بات صحیح ہے؟

پسندیدہ جواب

اس شخص کی بات صحیح نہیں، کیونکہ عمرہ میں صرف ایک بار ہی حج فرض ہوتا ہے، اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے:

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے کہا:

اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے یا کہ ایک بار؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بلکہ ایک بار، اور جو زیادہ کرے تو وہ نفلی ہے“

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (1721)
علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اس لیے کہ آپ ایک بار فریضہ حج کی ادائیگی کر چکے ہیں دوبارہ آپ پر حج فرض نہیں ہوتا۔

حج کے مہینے (اشحراج) تین ہیں،

شوال، ذوالقعدة، اور ذوالحجہ، شائد اس شخص نے یہ سمجھا ہے کہ ان مہینوں کے نام حج کے مہینے ہیں لہذا جو بھی ان مہینوں میں عمرہ کرے گا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کی

یہ سمجھ اور مفہوم غلط ہے، بلکہ حج کے مہینوں کا معنی تو یہ ہے کہ حج کا وقوع ان مہینوں میں ہونا ضروری ہے، نہ تو اس سے قبل اور نہ ہی اس کے بعد۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے درج ذیل
سوال کیا گیا:

ایک شخص نے حج تمتع کا احرام باندھا
اور پھر عمرہ کرنے کے بعد حج کیے بغیر ہی اپنے ملک واپس آ گیا تو کیا اس پر کچھ
لازم آتا ہے؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

”اس پر کچھ لازم نہیں آتا کیونکہ
تمتع شخص جب عمرے کا احرام باندھے اور پھر حج کا احرام باندھنے سے قبل اس کی نیت
حج نہ کرنے بن جائے تو اس پر کچھ لازم نہیں آتا، لیکن اگر اس نے اس برس حج کرنے کی
نذرمانی ہو تو پھر اسے یہ نذر پوری کرنا واجب ہے“ اھ

دیکھیں: فتاویٰ ابن عثیمین (679/2)
.

واللہ اعلم.